


* کل ملا کر کتنے مربع بنائے جاسکتے ہیں؟

* اس لیے A ٹکڑے کا رقبہ = مربع سینٹی میٹر

ان سب کو گناہ و قونی
ہے! اس ضرب کیجیے!



A ٹکڑا



* اسی طرح ٹکڑا B کا رقبہ معلوم کیجیے۔

* کس کے پاس بڑا ٹکڑا تھا؟ کتنا بڑا؟

ڈاک ٹکٹ (Stamps) سے ڈھکی

اس ڈاک ٹکٹ کا رقبہ 4 مربع سینٹی میٹر ہے۔ اندازہ لگا یئے کہا یئے کتنے ڈاک ٹکٹ اس بڑے مستطیل کو ڈھکیں گے۔



25 Hkkj India

بچوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کیجیے کہ وہ پہلے سکے، ڈاک ٹکٹ وغیرہ کا استعمال کر کے اشیا کے ربouں کا موازنہ کرنے کے لیے مختلف حکمتی عملی پر بحث کریں۔ چوتھی جماعت میں وہ مربعوں کی تعداد لوگن کر غیر منتظم اشکال کا موازنہ کرچکے ہیں۔ مستطیل کے معاملے میں اضلاع کی پیمائش کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 سینٹی میٹر مربع کے کتنے مربع اس شکل میں پیوست ہو جائیں گے۔

رقبہ اور اس کا حاطہ

11



کس کا ٹکڑا بڑا ہے؟


پارٹھو اور گنی نے ایک دوکان سے آم پاپٹ (اموٹ) خریدا۔
ان کے ٹکڑے اس طرح دکھائی دیتے ہیں۔
6 سینٹی میٹر



5 سینٹی میٹر

دونوں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کس کا ٹکڑا بڑا ہے۔
* یہ جاننے کے لیے کہ کس کا ٹکڑا بڑا ہے کوئی رائے تجویز کیجیے۔
بحث کیجیے۔
پارٹھو اور گنی کے ایک دوست نے چھوٹے مربعوں کا استعمال کر کے
ایک طریقہ بتایا۔

ٹکڑا A



3 سینٹی میٹر



ٹکڑا B

A ٹکڑے کی لمبائی 6 سینٹی میٹر ہے۔

اس لیے اس کی لمبائی میں ایک ایک سینٹی میٹر ضلعے کے 6 مربعوں کو رکھا جاسکتا ہے۔
A ٹکڑے کی چوڑائی 5 سینٹی میٹر ہے۔
اس لیے اس کی چوڑائی میں ایک ایک سینٹی میٹر کے 5 مربعوں کو رکھا جاسکتا ہے۔




d) ایک مرلع کیرم بورڈ کا احاطہ 320 سینٹی میٹر ہے۔ اس کا رقبہ کتنا ہے؟

e) سفید خاکہ میں اس طرح کے کتنے مثلث تائل آجائیں گے؟


$$\text{خاکہ کا رقبہ} = \text{مرلع سینٹی میٹر}$$

یہ مثلث مرلع سینٹی میٹر کا
آدھا ہے۔



* 4 اور 6 مرلع سینٹی میٹر رقبے کے آپ اپنے خاکے بنائیے۔

f) سانیا، آروشی، مانو اور کبیر نے گریٹنگ کارڈ (Greeting Cards) بنائے۔ درج ذیل کارڈوں کے جدول کو مکمل کیجیے:



رقبہ	احاطہ	چوڑائی	لمبائی	کس کا کارڈ
	8 سینٹی میٹر	10 سینٹی میٹر	سانیا	
44 سینٹی میٹر		11 سینٹی میٹر	مانو	
80 مرلع سینٹی میٹر		8 سینٹی میٹر	آروشی	
100 مرلع سینٹی میٹر	40 سینٹی میٹر		کبیر	

میری بیٹ سب سے لمبی!

14 سینٹی میٹر لمبی اور 9 سینٹی میٹر چوڑی موٹے کاغذ کی ایک شیٹ لیجیے۔ آپ ایک پرانا پوسٹ کارڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

* اس کا رقبہ کیا ہے؟ اس کا احاطہ کیا ہے؟

* اب اس میں برابر سائز (ناپ) کی پیمائش کا ٹیکے۔

اپنے اندازے کی جانچ کیجیے

- (a) پلے رنگ کے مستطیل کی پیمائش کیجیے۔ یہ _____ سینٹی میٹر لمبا ہے۔
- (b) اس کی لمبائی میں کتنے ڈاک ٹکٹ رکھے جاسکتے ہیں؟ _____
- (c) مستطیل کتنا چوڑا ہے؟ _____ سینٹی میٹر۔
- (d) اس کی چوڑائی میں کتنے ڈاک ٹکٹ رکھے جاسکتے ہیں؟ _____
- (e) مستطیل کو ڈھونے کے لیے کتنے ٹکٹوں کی ضرورت پڑے گی؟ _____
- (f) آپ کا پچھلا اندازہ کتنا صحیح تھا؟ بحث کیجیے۔
- (g) مستطیل کا رقبہ کیا ہے؟ _____ مرلے سینٹی میٹر
- (h) مستطیل کا احاطہ کیا ہے؟ _____ سینٹی میٹر



مشق کا وقفہ

- (a) ارباز نے اپنے باور پی خانے کے فرش پر ہرے رنگ کی مرلے ٹائلیں لگوانے کا منصوبہ بنایا۔ ٹائل کا ہر ضلع 10 سینٹی میٹر کا ہے۔ اس کے باور پی خانے کی لمبائی 220 سینٹی میٹر اور چوڑائی 180 سینٹی میٹر ہے۔ فرش کے لیے کتنے ٹائلوں کی ضرورت پڑے گی؟
- (b) ایک مرلے نما باغیچے کے چاروں طرف کی لمبائی 20 میٹر ہے۔ باغیچے کا ایک ضلع کتنا لمبا ہے؟



- (c) 20 سینٹی میٹر لمبے پتلے تار کا ایک مستطیل بنایا گیا ہے۔ اگر اس مستطیل کی چوڑائی 4 سینٹی میٹر ہے تو اس کی لمبائی کیا ہو گی؟


‘اندازہ لگانے اور جانچنے کی سرگرمی کو دوسرا شیا کا استعمال کر کے کلاس میں انجام دیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر: ریاضی کا جادو کتاب پر کتنے پوسٹ کارڈ رکھے جاسکتے ہیں۔ کلاس کے کمروں کی دیواروں کو کتنے چارٹ ڈھک سکتے ہیں وغیرہ؟ جہاں بھی ممکن ہوا شیا کو بچا کر بچوں سے ان کے اندازے کی جانچ کرنے کو کہا جاسکتا ہے۔ ایک بار جب وہ اندازہ لگانے کے قابل ہو جائیں، تو اس کام کو ان سے مرلے کے رقبہ کا اندازہ مرلے سینٹی میٹر میں معلوم کر کے آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔

ہر جگہ لوگ ہی لوگ

(A) آپ ایک میدان میں یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔

ایک میرضانے کے دو مرربع بنائیے۔

اپنی جماعت کو دو ٹیبوں میں تقسیم کیجیے۔ پچ کھینے کے لیے تیار ہیں!



اپنی ٹیبوں میں ان کی آزمائش کیجیے۔

* ایک مربع میرجگد میں آپ کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟

* آپ میں سے کتنے اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟

* ان میں سے کون سی ٹیم اپنے مرربعے میں زیادہ پچ کھڑے کر سکتی ہے؟ کتنے؟

* ان میں سے کون سی ٹیم اپنے مرربعے میں زیادہ پچ بھاskتی ہے؟ کتنے؟

(B) اپنی جماعت کے کمرے کے فرش کی لمبائی کی پیمائش میٹر میں کیجیے۔

اس کی چوڑائی بھی ناپیے۔


* آپ کی جماعت کے کمرہ کے فرش کا رقبہ مربع میٹر میں کیا ہے؟


* آپ کی جماعت میں کتنے پچ ہیں؟

* اس طرح 1 مربع میٹر میں کتنے پچ بیٹھ سکتے ہیں؟

* اگر آپ آزادانہ طور پر گھومنا چاہتے ہیں تو آپ کی سوچ کے حساب

سے 1 مربع میٹر میں کتنے پچ بیٹھ سکتے ہیں؟





ٹیپ کا استعمال کر کے بیوں کے سروں کو ملا کر ایک بیلٹ بنائیے۔

* آپ کی بیلٹ کتنی لمبی ہے؟ _____

* اس کا احاطہ کیا ہے؟ _____


* جماعت میں کس کی بیلٹ لمبی ہے؟ _____

بحث کچھی

* آپ کے پچھو دوستوں کی بیلٹ دوسروں سے لمبی کیوں ہے؟


* کیا آپ کی بیلٹ کارچہ پوست کا رڑ کے رقبے کے برابر ہے؟ کیوں؟

* اگلی مرتبہ آپ زیادہ لمبی بیلٹ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟



دیکھیے! میں ایک پوست کا رڑ سے ہو کر گز رسلتا ہوں۔ میں نے بغیر پیام کاٹے ہوئے ایک پھندا (لوپ) بنایا ہے۔

یہ بیلٹ ہاتھی کے لیے ہے۔




پہلی: ایک پوست کا رڑ سے ہو کر گز ریے

کیا آپ ایک پوست کا رڑ کاٹنے کا ایسا طریقہ بتاسکتے ہیں جس سے آپ اس سے ہو کر گز رسلیں؟ (تصویر دیکھیے)۔ اگر آپ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوئے..... تو اس کا جواب تلاش کیجیے۔

بیلٹ کی سرگرمی کا مقصد ہے کہ بچے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک ہی رقبے کی اشیاء مختلف شکل اختیار کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی مختلف احاطہ بھی رکھتی ہیں۔ جب ہم ضلعوں کی پیاس کرتے ہیں تو اس سرگرمی کے لیے لمبائی کوئی میٹر میں قریب قریب لیتے ہیں۔


* اگر اس صفحہ پر ہر ایک مرلے 1 مرلے میٹر زمین کے برابر ہے تو بتائیے ہر بچے کے حصے میں کتنی زمین آئے گی؟ _____ مرلے میٹر



چمکی، جھمری اور عمران کو اپنی اپنی زمین کے چاروں طرف باڑا گانے کے لیے تار کی ضرورت ہے۔

کس کو باڑا گانے کے لیے سب سے لمبے تار کی ضرورت پڑے گی *

کل ملا کر تینوں کو کتنا تار کی ضرورت پڑے گی؟ *



مشق کا وقفہ


A. جدول کو دیکھیے۔ اگر آپ کوان میں سے ہر ایک کارتبہ لکھنے کی ضرورت پڑتی تو آپ کون سا کالم چنتے؟ (✓) نشان لگائیے۔

مرلے کلو میٹر	مرلے میٹر	مرلے سینٹی میٹر	
		✓	رومیں
			ساتھی
			آپ کی کتاب کا صفحہ
			اسکول کی زمین
			ایک شہر کی کل زمین
			آپ کی کلاس کے کمرے کا دروازہ
			کرسی کی سیٹ
			تختہ سیاہ
			ہندوستان کا حصہ
			وہ زمین جس پر کوئی دریا بہتا ہے




مغربی بگال میں 1 مرلے کلومیٹر میں تقریباً
900 لوگ رہتے ہیں۔
لیکن اردوناچل پردیش میں بہت اکیلا پن لگتا ہے!
وہاں ایک مرلے کلومیٹر میں 15 سے بھی کم لوگ
رہتے ہیں!

کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک کلومیٹر ضلعے کا مرلے کتنا بڑا
ہے! اس کا رقبہ _____ مرلے کلومیٹر ہے۔
اندازہ لگائیے اس میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں۔



زمین کو بانٹو

نرینا ایک کسان ہے جو اپنی زمین کو اپنے تین بچوں میں برابر بانٹنا چاہتی ہے۔ چمکی، جھمری اور عمران۔ وہ اپنی زمین کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتی ہے کہ زمین کے ہر حصے میں ایک ایک پیڑا آئے۔ اس کی زمین اس طرح دکھائی پڑتی ہے۔




* کیا آپ زمین کو برابر بارہ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح تقسیم کریں گے، دکھائیے۔ یاد رکھیے کہ ہر ایک کو ایک پیڑا ملنا چاہیے۔ زمین کے ہر حصے کو الگ الگ رنگ سے بھریے۔

بچوں سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ مرلے کلومیٹر کو مرلے کلومیٹر میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے برعکس مشق B کا مقصد بچوں میں یہ سمجھ پیدا کرنا ہے کہ مرلے میٹر اور مرلے کلومیٹر کتنے بڑے اور کتنے چھوٹے ہیں۔

دھاگے کا کھیل

15 سینٹی میٹر لمبا ایک دھاگا بجھے۔ اس شیٹ پر اس کے دونوں سروں کو ملا کر مختلف اشکال بنائیے۔




(a) کس شکل کارقبہ سب سے زیادہ ہے؟ کتنا زیادہ ہے؟ _____

اس شکل کا احاطہ کیا ہے؟ _____

(b) شکل کارقبہ سب سے کم ہے؟ کتنا کم ہے؟ _____

اس شکل کا احاطہ کیا ہے؟ _____

ساتھ ہی ایک مثلث، ایک مربع، ایک مستطیل اور ایک دائرہ بنائیے۔ معلوم کیجیے کس شکل کارقبہ سب سے زیادہ ہے اور کس شکل کارقبہ سب سے کم ہے۔




سینٹی میٹر کا ایک مریع بنائیے۔ اس پر A لکھیے۔
ایک دوسرے مریع بنائیے جس کا ضلع اس سے دو گناہو۔ اس پر B لکھیے۔

جواب دیکھیے۔


1. مریع A کا احاطہ _____ سینٹی میٹر ہے۔
2. مریع B کا ضلع _____ سینٹی میٹر ہے۔
3. مریع B کا رقبہ _____ مریع سینٹی میٹر ہے۔
4. مریع B کا رقبہ، مریع A کے رقبہ سے _____ گنازیادہ ہے۔
5. مریع B کا احاطہ _____ سینٹی میٹر ہے۔
6. مریع B کا احاطہ، مریع A کے احاطے سے _____ گنازیادہ ہے۔

جواب - ایک پوسٹ کارڈ سے گزاریے (صفحہ 150)



پوسٹ کارڈ کو صرف خطوط پر کاٹیے۔

- 1.




ایک پوسٹ کارڈ پر اس طرح خطوط کھینچیے۔

اس طرح کیا آپ اس سے ہو کر گذر سکتے ہیں!

_____ آپ پھندے کا رقبہ جانتے ہیں، یہ ہے *

- 3.



f) ڈرائیگ پر جھیل B کارقبہ مربع سینٹی میٹر میں معلوم کیجیے۔ زمین پر اس کارقبہ کتنے مربع کلومیٹر ہے؟

بادشاہ کی کہانی

بادشاہ چیکو بڑھتی اور انار سے بہت خوش تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے لیے ایک بہت بڑا اور خوبصورت پنگ بنایا تھا۔ اس لیے بادشاہ تختہ کے طور پر چیکو کو کچھ زمین اور انار کو کچھ سونا دینا چاہتا تھا۔

چیکو خوش تھا۔ اس نے 100 میٹر تار کا ٹکڑا لیا اور الگ الگ مستطیلیں بنائیں۔

اس نے $10 \text{ میٹر} \times 40 \text{ میٹر}$ کا ایک مستطیل بنایا۔ اس کا رقبہ 400 مربع میٹر تھا۔

اس کے بعد اس نے $30 \text{ میٹر} \times 20 \text{ میٹر}$ کا مستطیل بنایا۔
* اس کارقبہ کیا ہے؟ کیا اس کارقبہ پہلے مستطیل کے رقبے سے زیادہ ہے؟

واہ! میں زمین کے اسی ٹکڑے کو لینا چاہتا ہوں۔ یہ 800 مربع میٹر کے رقبے کوڈھتا ہے۔

* 100 میٹر تار کے ساتھ وہ کون سے دوسرے مستطیل بناسکتا ہے؟ بحث کیجیے کہ ان میں سے کون سے مستطیلوں کا رقبہ سب سے زیادہ ہے۔


چیکو کی بیوی نے اسے اس تار سے دائرہ بنانے کے لیے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رقبہ 800 مربع میٹر ہے۔

* چیکو نے کسی مستطیل کو کیوں نہیں چنا؟ سمجھائیے۔

ٹھیک ہے! چیکو نے 800 مربع میٹر زمین لی ہے۔ انار! اب میں تھیس اتنا سونے کا تار دوں گا جو زمین کے 800 مربع میٹر رقبہ کا احاطہ بناسکے۔

پرندوں کو بچائیے

ایک گاؤں کے کنارے دو خوبصورت جھیلیں ہیں۔ ان دونوں جھیلوں میں لوگ کشتی چلانے اور پینک (سیر و فرشت) کے لیے آتے ہیں۔ گاؤں کی پنجاہیت کو فکر ہے کہ کہیں موڑ کشتوں کی آواز سے وہاں پرندے آنانہ چھوڑ دیں۔ پنجاہیت چاہتی ہے کہ صرف ایک جھیل میں ہی موڑ کشتوں کا چلاجائیں اور دوسرا جھیل پرندوں کے لیے محفوظ رکھی جائے تاکہ وہاں میں اپنے گھونسلے بناسکیں۔



- ڈرائیگ میں جھیل A کے احاطے کی لمبائی کتنی سینٹی میٹر ہے?
(اسے معلوم کرنے کے لیے دھاگے کا استعمال کیجیے)
- ڈرائیگ میں جھیل B کے احاطے کی لمبائی کتنی سینٹی میٹر ہے?
- جھیل A کے احاطے کی لمبائی کتنی کلومیٹر ہے?
- جھیل B کے احاطے کی لمبائی کتنی کلومیٹر ہے?
- جھیل کے چاروں طرف کا لمبا احاطہ زیادہ پرندوں کو اولاد دینے میں مدد کرے گا۔ اس لیے کس جھیل کو پرندوں کے لیے محفوظ رکھا جائے؟ اور کس جھیل کو کشتیاں چلانے کے لیے استعمال کیا جائے؟



انار نے بھی 800 مربع میٹر میں کا احاطہ بنانے کے لیے مختلف طریقوں سے کوشش کی۔

* اس نے A، B اور C مختلف شکلوں کے مستطیل بنائے۔ ہر احاطے کی لمبائی معلوم کیجیے۔ ان مستطیلیوں کے لیے اُسے کتنے سونے کا تار ملے گا؟

40 میٹر \times 20 میٹر

A

میٹر _____ کے لیے سونے کا تار = A

80 میٹر \times 10 میٹر

B

800 میٹر \times 1 میٹر

C

میٹر _____ کے لیے سونے کا تار = C

لیکن انار نے اس سے بھی لمبا مستطیل بنایا..... دیکھیے کتنا لمبا!

8000 میٹر \times 0.1 میٹر

اس لیے اسے _____ میٹر سونے کا تار حاصل ہوگا!!



کیا آپ آپ سمجھ گئے کہ بادشاہ کیوں بے ہوش ہو گیا!!!

اُف! میں اتنا سونا
کیسے دے سکتا ہوں؟

کیا آپ اس سے بھی بڑے احاطے کا مستطیل بن سکتے ہیں؟ میں
نے ایک مستطیل 1 سینٹی میٹر چوڑا اور 80000 میٹر لمبا بنایا۔
تصور کیجیے کہ وہ احاطہ کتنا لمبا ہو گا!!! اتنے لمبے سونے کے تار
سے میں بادشاہ بن سکتا ہوں!

